



• بچوں کی ذہن سازی کے لئے انوکھی کوشش •

# میں مثالی بیٹا بنوں گا

ان شاء اللہ

Main Misaali Beta Banunga



**Shaikh Nooruddin Umeri**

M.A., MPhil in Arabic, Director - Ocean The ABM School, Hyd.





Author:

**Shaikh Nooruddin Umeri**

M.A., MPhil in Arabic

Director - Ocean The ABM School, Hyd.

Design By: **Syed Zabi Uddin Quadri**

(Suffah Graphics)

Published in, **November 2022.**

All rights reserved under the Copyright Act. No part of this book may be reproduced and stored in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without a prior written permission of the publisher.



## مقدمہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

پیارے پیارے بچو! ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے کرم سے خوش و خرم اور صحت مند ہوں گے، ہماری دعائیں نیک تمنائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔

پیارے بچو ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بڑے بھائی بہن سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں، ہماری عادتیں اچھی ہوں، ہم اچھے اخلاق والے ہوں۔ اگر ہم لوگ اچھے بن جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے امی ابو خوش ہو جائیں تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

پیارے بچو اچھے بننے کے لئے اچھے کام کرنے ہوں گے اور برے کاموں سے رکنا ہوگا۔ اس کتاب میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اچھے کام کیا کرنا ہے اور کن برے کاموں سے رکنا ہے۔ آپ سبھی اس کتاب کو اچھی طرح پڑھیں اور یاد رکھیں۔

ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو مثالی بیٹا/بیٹی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے اس دنیا میں بڑے بڑے کام لیتا رہے۔ آمین یارب

والسلام

آپ کا خیر خواہ

نور الدین عمری۔ ایم اے، ایم فل

● جب کبھی کسی سے ملاقات ہو تو میں سلام میں پہل کروں گا۔

- Jab kabhi kisi se mulaqaat ho toh main salaam mein pahel karunga.

● اپنے دوستوں سے ملاقات کروں گا تو سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کروں گا۔

- Apne doston se mulaqaat karunga toh salaam ke saath musafaha (Shake hand) bhi karunga.

● میں ہمیشہ الحمد للہ، ماشاء اللہ، ان شاء اللہ، جزاک اللہ کہوں گا۔

- Main Hamensha Alhamdulillah, Masha Allaah, In shaa Allaah, Jazak Allaah, kahunga.



● جب کبھی کوئی نقصان ہو تو اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھوں گا۔

- Jab kabhi nuqsaan ho toh Inna lillaahi wa inna ilayhi rajioon padhunga.

● اگر کوئی اچھی چیز دیکھوں تو ماشاء اللہ کہوں گا۔

- Agar koi Achchi cheez dekhun toh Masha'Allaah kahunga.



● اگر کوئی میری مدد کرے تو شکریہ ادا کروں گا۔

- Agar koi meri madad kare toh shukriya adaa karunga.

● اگر کوئی چیز مجھے پیش کرے تو بارک اللہ کہوں گا۔

- Agar koi cheez mujhe pesh kare toh Barak Allaah, kahunga



● اگر میری جانب سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو معافی طلب کروں گا۔

- Agar meri jaanib se kisi ko takleef pahunch jaaye toh maafi talab karunga.

● اگر کوئی مجھ پر احسان کرے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جزاک اللہ کہوں گا۔

- Agar koi mujh par ehsaan kare to main unka shukriya adaa karte huwe Jazak Allaahu khair, kahunga

● جب کوئی بات کرے تو میں غور سے سنوں گا۔

- Jab koi baat kare to main ghaur se sununga.

● جب 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو میں درمیان میں بات نہیں کروں گا۔

- Jab 2 log aapas mein baat kar rahe hun toh main darmiyaan mein baat nahi karunga.

● جب بڑے لوگ کچھ حکم دیں تو میں ان کا حکم مانوں گا۔

- Jab bade log kuch hukm den toh main unka hukm maanunga.

● بس میں سفر کے دوران کوئی کھڑا ہو تو میں انہیں بھی جگہ دے کر بٹھا دوں گا۔

- Bus mein safar ke dauraan koi khadaa ho toh main unhen bhi jagah dekar bitha-dunga.



● جب گھر میں مہمان آئیں تو سب سے پہلے پانی پیش کروں گا۔

- Jab ghar main mehmaan aayein toh sab se pehle paani pesh karunga.

● جب دسترخوان پر ہوں تو پہلے بڑوں کو کھانا پیش کروں گا۔

- Jab dastarkhaan par hun toh pehle badhaun ko khaana pesh karunga.

● جب کوئی بیمار ہو تو لا باس طہورا ان شاء اللہ کی دعا دوں گا۔

- Jab koi beemar ho toh "La Baa'sa Tahoorun In shaa Allah" ki dua dunga.

● جب کوئی چیز مجھے بہت پسند آئے تو سبحان اللہ کہوں گا۔

- Jab koi cheez mujhe bahuth pasand aaye toh "Subhan Allaah" kahunga.



● جب گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت لوں گا۔

- Jab ghar mein daakhil hona Ho toh ijaazat lunga.

● میں نماز کی مکمل پابندی کروں گا۔

- Main Namaz ki mukammal pabandi karunga.

● میں جمعہ کے دن خطبہ غور سے سنوں گا۔

- Main Jumu'ah ke din khutba ghaur se sununga.

● جمعہ کے دن کچھ صدقہ کروں گا۔

● Jumu'ah ke din kuch sadaqah karunga.

● اگر کوئی مسکین کچھ مانگے تو ضرور دوں گا۔

● Agar koi miskeen kuch maange to zaroor dunga.

● اگر ہمارے گھر میں کچھ اچھی چیز پکے تو اپنے دوستوں کو بھی کھلاؤں گا۔



● Agar hamaare ghar mein kuch achchi cheez pake toh apne doston ko bhi khilaaunga.

● میں ہر دن قرآن کی تلاوت کروں گا۔

● Main har din Qur'an ki Tilaawat karunga.

● میں صبح و شام کے اذکار کی پابندی کروں گا۔

● Main Subah aur Shaam ke azkar ki pabandi karunga.



● میں غریبوں سے مسکینوں سے محبت کروں گا۔

● Main Ghareebon se miskeeno se Mohabbat karunga.

● اگر میری کلاس میں کوئی اچھے نمبرات سے کامیاب ہو تو مبارک بادی دوں گا۔

● Agar meri class mein koi achche marks se kamiyaab Ho toh mubarak-baadi dunga.



● میں اپنے کلاس لیڈر کی بات مانوں گا۔

● Main apne class leader ki baat manunga.

● اگر میں کلاس لیڈر بنوں تو پوری کلاس کو اچھی طرح سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔

● Agar main class leader banunga to poori class achchi tar'ha sam'bhalne ki koshish karunga.

● میں اسکول کے خادماؤں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروں گا۔

● Main School ke khadimon ke saath bhi achcha sulook karunga.



● بس میں سفر کے دوران کوئی کھڑا ہو تو میں انھیں بھی جگہ دے کر بٹھا دوں گا۔

- Bus mein safar ke dauraan koi khadaa ho toh main unhen bhi jagah dekar bitha-dunga.

● میں اسکول کے واپسین چوکیدار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروں گا۔

- Main School ke watchman ke saath bhi achha sulook karunga.

● میں بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کروں گا۔

- Main badhon ko salaam karne mein pehal karunga.



● میں امی ابو کی ہمیشہ خدمت کروں گا۔

- Main Ammi Abbu ki hamesha khidmat karunga.

● میں ساری نمازیں مسجد میں پڑھوں گا۔

- Main saari namaazen masjid mein padhunga.

● میں مسجد کے امام صاحب اور موذن صاحب کی عزت کروں گا۔

- Main Masjid ke Imaam Sahab aur Muazzin Sahab ki Izzat karunga.

● جب بھی مسجد میں کوئی پروگرام ہو تو ضرور شرکت کروں گا۔

- Jab bhi Masjid mein koi programme Ho toh zaroor shirkat karunga.



● میں ہر دن کسی اچھے قاری کی لحن کو سن سن کر قرأت کی مشق کروں گا۔

- Main har din kisi achche Qaari ki lahan ko sun-sun kar Qiraat ki mashq (practice) karunga.

● میں ہر دن کم از کم ایک حدیث یاد کروں گا۔

- Main har din kam-az-kam 1 hadees yaad karunga.

● میں ہر دن امی ابو کے لئے رب ارحمہما کما ربیبانی صغیرہ کی دعا کروں گا۔

- Main har din Ammi Abbu ke liye "Rabbirhamhuma kama Rabbayani Sagheera" ki dua karunga.

● میں ہر دن شام میں کل کرنے والے کاموں کی لسٹ بناؤں گا۔

- Main har din shaam mein kal (tomorrow) karne waale kaamo ki list banaaunga.

● میں ہر دن نہاؤں گا صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا۔

- Main har din nahaunga saaf suthre kapde pehninga.

● میں ہر دن صحت مند ناشتہ کر کے ہی اسکول جاؤں گا۔

- Main har din sehat-mand nashta karke hi school jaaunga.



● میں ہر دن گرم دودھ پیوں گا۔

- Main har din garam doodh piyunga.

● میں ہر دن بادام پانی میں بھگیو کر کھاؤں گا۔

- Main har din baadam paani mein bhigo-kar kahunga.

● میں ہر دن واکنگ یا ورزش کروں گا۔

● Main har din walking ya warzish karunga.

● میں مسجد میں شرارت نہیں کروں گا۔

● Main Masjid mein shararat nahi karunga.



● میں کسی کی چیز چھین کر نہیں لوں گا۔

● Main kisi ki cheez cheen kar nahi Lunga.

● میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا۔

● Main kisi ko pareshaan nahi karunga.

● میں کھانا کھاتے ہوئے امی کو پریشان نہیں کروں گا۔

● Main khaana khate huwe Ammi ko pareshaan nahi karunga.

● میں کسی اچھی چیز کو گندی نہیں کروں گا۔

● Kisi achchi cheez ko gandi nahi karunga.

● میں جوتوں اور ساکس کو ادھر ادھر نہیں پھیکوں گا۔

● Main shoes aur socks ko idhar-udhar nahi phekung.

● میں ٹیچر کو یا امی ابو کو کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا

● Main Teacher ko ya Ammi abbu ko kabhi jhoot nahi bolunga.



● میں کسی کی کوئی چیز چرا کر نہیں لوں گا۔

● Main kisi ki koi cheez churakar nahi lunga.

● میں کبھی زبان سے گالی نہیں دوں گا۔

● Main kabhi zubaan se gaali nahi dunga.



● میں زبان سے کبھی گندی بات کسی کو بھی نہیں کروں گا۔

● Main zubaan se kabhi gandi baat kisi ko bhi nahi kahunga.

● میں گندی باتیں کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔

● Main gandi baatein karne waalon ke saath nahi rahunga.



● میں کسی سے بے وجہ نہیں لڑوں گا۔

● Main kisi se be-wajah nahi ladunga.

● میں کسی بھی معاملہ میں ضد نہیں کروں گا۔

● Main kisi bhi muamle mein zidd nahi karunga.

● میں موبائل کا استعمال زیادہ نہیں کروں گا۔

● Main Mobile ka istemaal zyaada nahi karunga.

● میں اسکول میں مکمل ٹفن کھا کر گھر آؤں گا۔

● Main school mein mukammil Tiffin khaakar aaunga.

● میں اسکول میں کسی کو نہیں ستاؤں گا۔

● Main school mein kisi ko nahi sataaunga.

● میں اسکول میں کسی کی  
نوٹ بک نہیں پھاڑوں گا۔

● Main School mein kisi ki note  
book nahi phadunga.



● میں اسکول میں کسی کی پین یا پنسل نہیں چراؤں گا۔

● Main School mein kisi ki pen ya pencil nahi churaunga.

● میں اسکول میں کسی کا بسکٹ یا چاکلیٹ نہیں چراؤں گا۔

● Main School mein kisi ka biscuit ya chocolate  
nahi churaunga.

● میں اسکول میں کسی کا بیگ بغیر اجازت کے کھول کر نہیں دیکھوں گا۔

- Main school mein kisi ka bag Baghair ijaazat ke khol kar nahi dekhunga.

● میں اسکول کو دیر سے نہیں جاؤں گا۔

- Main school ko derse nahi jaaunga.



● میں کلاس روم میں کچرا نہیں پھینکوں گا۔

- Main class room mein kachraa nahi phekungaa.

● میں اسکول میں کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔

- Main School mein kisi ke saath bhi nahi ladunga.

● میں محلے میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔

- Main mohalle mein kisi ke saath ladaayi-jhagda nahi karunga.

● میں محلے میں لڑائی جھگڑا کرنے والے بچوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔

- Main mohalle mein ladaayi-jhagda karne waale bachchon ke saath nahi rahunga.

● میں محلے میں کرکٹ کھیل کر راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہیں دوں گا۔

- Main mohalle mein cricket khelkar raaste se guzarne waalon ko takleef nahi dunga.

● میں نئے کپڑوں یا نئے جوتوں کے

لئے ضد نہیں کروں گا۔

- Main naye kapdon ya naye shoes ke liye zidd nahi karunga.



● میں مہنگے کھلونے کے لئے ضد نہیں کروں گا۔

- Main mehenge khilono ke liye zidd nahi karunga.

● میں مہنگے کپڑوں کے لئے ضد نہیں کروں گا۔

- Main mehenge kapdon ke liye zidd nahi karunga.

● میں راستے میں تیز سائیکل نہیں چلاؤں گا۔

● Main raaste mein tez cycle nahi chalaunga.

● میں راستے میں چلنے والے کتے بلیوں یا کسی بھی جانور کو نہیں ماروں گا۔

● Main raaste mein chalne waale dog ya cats ya kisi bhi jaanwar ko nahi marunga.



● میں راستے کے آداب جان کر عمل کروں گا

● Main raaste ke Aadaab jaankar amal karunga.

● میں نے جو کچھ باتیں سیکھی ہیں ان سب پر عمل کروں گا۔

● Main naye jo kuch baatein seekhi hai un sab par amal karunga, In Shaa Allah.

● اور میں ہر اچھی عادت پر عمل کرنے کیلئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے بچوں کو بھی ابھاروں گا۔ ان شاء اللہ اور یہ سب سیکھنے کیلئے اللہ کا خوب شکر ادا کروں گا الحمد للہ۔

● Main har achchi aadat ko karne ke liye apne doston aur rishtedaaron ke bachcho ko bhi ubhaarunga, In shaa Allaah, aur ye sab seekhne ke liye Allaah ka khoob shukr adaa karunga, Alhamdulillah.





## نورالدين عمرى كى زير طباعت كتابين

- (1) آو بچو قرآن سمجھين تفسير عم پارہ
- (2) آو بچو عقيدہ سمجھين
- (3) ميرے پيارے نبى
- (4) سنہرى باتين
- (5) سنو تم بدل سکتے ہو
- (6) زندگى کا سلیقہ
- (7) تفسير سورہ رحمن
- (8) درس حدیث
- (9) صدائے نور خطبات جمعہ
- (10) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (ماں كے پیٹ سے پیدائش تك)
- (11) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (پیدائش سے 7 سال تك)
- (12) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (7 سال سے 10 سال تك)
- (13) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (10 سال سے 14 سال تك)
- (14) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (15 سال سے 18 سال تك)
- (15) بچوں كى تربیت كیسے كى جائے (نكاح سے پہلے)

Note :

Support us in publishing of children's literature  
Google pay Number 9391138391

نوٹ :  
بچوں كے لٹریچر كى نشر و اشاعت ميں آپ كے تعاون كى ضرورت ہے۔

# Introduction Of Shaikh Nooruddin Umeri

Shaikh Nooruddin Umeri Is A Renowned Islamic Scholar, Speaker And Researcher From Hyderabad, India. He Has Delivered Thousands Of Talks All Over India – In Organized Programs As Well As Friday Sermons In Masaajid. Apart From The Lengthy Speeches, His Short And Informative Videos On Youtube On A Variety Of Topics Have A Large Number Of Followers, Alhamdulillah.

He Is A Successful Child Psychologist And A Family Therapist. With Indepth Understanding Of Islam, He Specializes In Counseling Students, Parents And Spouses In The Light Of Shari'ah.

## EDUCATION:

- Aalim Faazil – Jamia Darussalam, Oomerabad.
- Bachelor of Arts, Arabic– Madras University.
- Master of Arts, Arabic – English & Foreign Languages University (EFLU), Hyd.
- Diploma in Translation – English & Foreign Languages University (EFLU), Hyd.
- Master of Philosophy, Arabic–English & Foreign Languages University (EFLU), Hyd.
- Master of Arts, Urdu – Central University of Hyderabad, Hyd.

## TEACHING EXPERIENCE:

- Arabic Lecturer At Narayana Junior College, Hyderabad For A Period Of 10 Yrs.
- Jamia Darul Furqaan, Sayeedabad, Hyderabad.
- Jamia Hafsa As-Salfiya, Golconda, Hyderabad.

## RESEARCH WORK:

AskIslamPedia.com–An Online Islamic Encyclopedia, Head Office–Hyderabad.

## CURRENT DESIGNATION:

Director - Ocean The ABM School, Hyderabad.

